

سٹی کی سہولت گاہوں کو محفوظ طریقے سے مرحلہ وار طور پر کھولنے اور سروسز کی بحالی کے منصوبے کا جائزہ لینے کے لیے سٹی نے میئرز ورکنگ گروپ تشکیل دے گیا

برامپٹن، آن (22 اپریل 2020) - آج سٹی نے ایک میئرز ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے جو سٹی کی سہولت گاہوں کو محفوظ طریقے سے مرحلہ وار طور پر دوبارہ کھولنے اور متاثر شدہ پروگراموں اور سروسز کی بتدریج بحالی کے ایک تفصیلی منصوبے پر کام کرنا شروع کرے گا جس میں کمیونٹی کی صحت اور حفاظت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔

ریجنل کونسلر مارٹن میڈیروس کی زیر نگرانی اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کی رہنمائی میں یہ ورکنگ گروپ سٹی کی سہولت گاہوں کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے محفوظ اور معقول طریقوں پر غور و فکر کرے گا۔ مرحلہ وار طور پر بحالی کے اس عمل کے دوران یہ گروپ کووڈ-19 کی خصوصی ٹاسک فورسز کو رہنمائی فراہم کرے گا تاکہ رہائشیوں، کاروباری اداروں اور ملازمین کو ان کی مطلوبہ معاونت میسر آتی رہے۔ یہ گروپ مختلف حکومتی درجات، کھیلوں اور فنون کے استعمال کنندگان کے گروپس اور رہائشیوں کی انجمنوں کو ان کی حفاظتی ضروریات اور مطلوبہ نتائج کے حوالے سے مشاورت کی خدمات فراہم کرے گا۔

ریجن آف پبل کے لیے انسانی خدمات کے صدر کی حیثیت سے، کونسلر میڈیروس اور ورکنگ گروپ پبل پبلک ہیلتھ، اونٹاریو اور کینیڈا کی حکومتوں کے مشوروں پر انحصار کرے گا اور سٹی کی چار میئر ٹاسک فورسز کے ساتھ مربوط ہو کر اپنا کام کرے گا۔ یہ گروپ میئر کو رہائشیوں اور کاروباری طبقے کی جانب سے سٹی کی خدمات تک رسائی حاصل کرنے اور صحت کے شعبے سے وابستہ ماہرین کے مشوروں کے مطابق خدمات میں ضروری تبدیلیاں لانے اور سٹی کو انتظامی معاملات کو منتظم کرنے کے نئے طریقوں کے مواقع کے بارے میں مشورے دے گا۔ یہ گروپ حکومت کی دیگر سطحوں سے ممکنہ طور پر حاصل ہونے والی ایسی مالی معاونت کی دستیابی کے مواقع پر بھی غور کرے گا جو سٹی کے امور پر کووڈ-19 کی وجہ سے پڑنے والے مالی اثرات کو کم کرنے میں مدد فراہم کر سکتے ہوں۔

یہ تفصیلات اور مشورے میئر کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اور مستقبل میں سٹی کونسل کے ذریعہ ان پر غور و فکر کیا جائے گا۔

سٹی نے 16 مارچ سے سٹی ہال سمیت سٹی کی دیگر سہولیات کو بند کر دیا تھا اور کچھ تقریبات اور پروگراموں وغیرہ کو بھی منسوخ کر دیا تھا۔ مورخہ 24 اپریل کو سٹی آف برامپٹن میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اس وقت کے بعد مزید کچھ بندشوں کا اعلان بھی کیا گیا تھا اور ہر قسم کی تقریبات کے انعقاد کو مورخہ 2 جولائی 2020 تک منسوخ کر دیا گیا تھا۔ موجودہ طور پر، سٹی کی تمام سہولت گاہیں تاحکم ثانی بند ہیں۔

تازہ ترین اپ ڈیٹس اور کثرت سے پوچھے جانے والے سوالات (FAQs) کے لیے، براہ کرم ملاحظہ کریں: www.brampton.ca/COVID19

اقتباسات

"اس ہفتے کے اوائل میں صوبہ کی جانب سے کیا جانے والا اعلان امید کی ایک کرن اور کئی لوگوں کی سخت کاوشوں کا اظہار ہے۔ مجھے اپنی کمیونٹی کی اجتماعی کاوشوں سے حوصلہ ملا ہے مگر میں جانتا ہوں کہ ہمیں اس وائرس کے خلاف لڑنے میں کافی لمبا وقت لگ سکتا ہے۔ اب جبکہ ہماری توجہ ہنگامی حالات کے بجائے شہر کو دوبارہ کھولنے پر مرکوز ہے، تو ہماری اولین ترجیح ہماری کمیونٹی کی صحت اور حفاظت ہی ہو گی۔ دوبارہ بحالی کے عمل میں ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور میں اپنے شہریوں کو دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ وہ براہ کرم آپس میں مطلوبہ جسمانی فاصلہ رکھنا جاری رکھیں اور پبل پبلک ہیلتھ کے مشوروں پر ضرور عمل کریں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کے رہائشی اور کاروباری ادارے محنت کش ہیں اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم سب مل جل کر سٹی ہال کو دوبارہ کھولنے کا کوئی راستہ نکالیں گے تاکہ رہائشیوں کو اپنی مطلوبہ سروسز حاصل ہو سکیں مگر یہ سب کچھ ایک

مرحلہ وار اور محفوظ طریقے سے ہونا ضروری ہے۔ میئر کا ایڈوائزری گروپ یہ یقینی بنانے میں ہمیں مشورے دے گا کہ ہم ٹاسک فورسز کے ذریعہ فراہم کی جانے والی اپنی معاونت کی فراہمی کو جاری رکھ سکیں اور سٹی کی خدمات کو دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے ایک ایسا حکیمانہ انداز اپنائیں جو ہماری روزمرہ کی زندگیوں کو سہارا دیتا ہے۔"

- مارٹن میڈیروس ریجنل کونسلر وارڈز 3 اور 4

"شہر کو دوبارہ کھولنے سے پہلے ایک محتاط منصوبہ بندی کی ضرورت ہو گی اور ہمیں اپنے ماہرین صحت کے مشوروں کے مطابق ترجیحی عناصر کو فوقیت دینی ہو گی۔ اس ورکنگ گروپ کے قیام کی وجہ سے ایک معقول طریقہ کار کو فروغ دینے کے لیے اب ہماری ٹیم کو سوچنے سمجھنے کے لیے درکار وقت میسر آ جائے گا اور یہ یقینی بنایا جا سکے کہ جب ایسا کرنا محفوظ ہو تو ہم سہولیات کو دوبارہ کھولنے اور کاروباروں اور پروگراموں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca